

Col

Chapter 4

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες
اے مالکو وہ انصاف اور وہ برابری ان غلاموں-کو دو جاننے-ہوئے
[G3588](#) [G2962](#) [G3588](#) [G1342](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2471](#) [G3588](#) [G1401](#) [G3930](#) [G1492](#)
- ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανῷ.
کہ بھی تم رکھتے-ہو خداوند میں آسمان
[G3754](#) [G2532](#) [G4771](#) [G2192](#) [G2962](#) [G1722](#) [G3772](#)

بے-مالک بھی کا آپ پر آسمان کہ ہیں جانتے تو آپ کریں۔ سلوک جائز اور منصفانہ ساتھ کے غلاموں اپنے مالکو،

- 2 Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ;
اُس دعا لگے-ریو جاگتے-ہوئے میں اُس میں شکرگزاری
[G3588](#) [G4335](#) [G4342](#) [G1127](#) [G1722](#) [G0846](#) [G1722](#) [G2169](#)

ریں۔جاگتے ساتھ کے شکرگزاری وقت کرتے دعا اور رہیں۔ لگے میں دعا

- 3 προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοιξῇ ἡμῖν θύραν
دعا-کرتے-ہوئے ساتھ بھی لیے ہمارے تاکہ وہ خدا کھولے ہمیں دروازہ
[G4336](#) [G0260](#) [G2532](#) [G4012](#) [G1473](#) [G2443](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0455](#) [G1473](#) [G2374](#)

τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι' ὃ καὶ δέδεμαι,
اُس کلام-کا بولنے-کو اُس بھید اُس مسیح-کا لیے جس-کے بھی بندھا-ہوا-ہوں
[G3588](#) [G3056](#) [G2980](#) [G3588](#) [G3466](#) [G3588](#) [G5547](#) [G1223](#) [G3739](#) [G2532](#) [G1210](#)

قید سے وجہ کی راز اسی میں آخر سکیں۔ کر پیش راز کا مسیح ہم اور کھولے دروازہ کا سنانے کلام لے ہمارے اللہ تاکہ کریں دعا بھی لے ہمارے ساتھ ساتھ
ہوں۔میں

- 4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ, ὡς δεῖ με λαλῆσαι.
تاکہ ظاہر-کروں اُسے جیسا چاہیے مجھے بولنا
[G2443](#) [G5319](#) [G0846](#) [G5613](#) [G1163](#) [G1473](#) [G2980](#)

سکے۔جا سمجھا صاف اِسے کہ چاہئے، کرنا طرح جس کروں پیش یوں اِسے میں کہ کریں دعا

- 5 Ἐν σοφίᾳ, περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.
میں حکمت چلو ساتھ اُن کے باہر-والوں-کے اُس وقت-کو خریدتے-ہوئے
[G1722](#) [G4678](#) [G4043](#) [G4314](#) [G3588](#) [G1854](#) [G3588](#) [G2540](#) [G1805](#)

اُنھائیں۔فائدہ سے موقع ہر میں سلسلے اِس کریں۔ سلوک مندانہ دانش ساتھ کے اُن ہوں لائے نہ ایمان تک اب جو

- 6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ
وہ بات تمہاری ہمیشہ میں فضل نمک-سے مزے-دار-کیا-ہوا جاننے-کو کیسے چاہیے
[G3588](#) [G3056](#) [G4771](#) [G3842](#) [G1722](#) [G5485](#) [G0217](#) [G0741](#) [G1492](#) [G4459](#) [G1163](#)

ὕμᾱς ἐνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.
تمہیں ایک بر-ایک-کو جواب-دینا
[G4771](#) [G1520](#) [G1538](#) [G0611](#)

سکیں۔دے جواب مناسب کو ایک ہر آپ اور آئے مزہ کہ ایسی ہو، مہربان وقت ہر گفتگو کی آپ

7 Τὰ κατ' ἐμὲ πάντα, γνωρίσει ὑμῖν Τυχικός, ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφός, καὶ
 وہ بارے میرے سب جتائے-گا تمہیں تیخکس وہ پیارا بھائی اور
[G3588](#) [G2596](#) [G1473](#) [G3956](#) [G1107](#) [G4771](#) [G5190](#) [G3588](#) [G0027](#) [G0080](#) [G2532](#)

πιστὸς διάκονος, καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ;
 وفادار خادم اور ہم-خدمت میں خداوند
[G4103](#) [G1249](#) [G2532](#) [G4889](#) [G1722](#) [G2962](#)

ہے۔ رہا خدمت ہم میں خداوند اور خادم وفادار ایک وہ گا۔ دے بتا کچھ سب کو آپ ٹیخکس بھائی عزیز ہمارا ہے تعلق میرا تک جہاں

8 ὄν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν,
 جسے بھیجا پاس تمہارے لیے اسی اس تاکہ جانو وہ بارے ہمارے
[G3739](#) [G3992](#) [G4314](#) [G4771](#) [G1519](#) [G0846](#) [G3778](#) [G2443](#) [G1097](#) [G3588](#) [G4012](#) [G1473](#)

καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν;
 اور تسلی-دے اُن دلوں-کو تمہارے
[G2532](#) [G3870](#) [G3588](#) [G2588](#) [G4771](#)

کرے۔ افزائی حوصلہ کی آپ وہ اور جائے ہو معلوم حال ہمارا کو آپ تاکہ دیا بھیج پاس کے آپ لئے اس کر خاص اُسے نے میں

9 σὺν Ὀνησίμῳ, τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὃς ἐστὶν ἐξ ὑμῶν.
 ساتھ انیسمس-کے اُس وفادار اور پیارے بھائی-کے جو ہے سے تم
[G4862](#) [G3682](#) [G3588](#) [G4103](#) [G2532](#) [G0027](#) [G0080](#) [G3739](#) [G1510](#) [G1537](#) [G4771](#)

πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.
 سب تمہیں جتائیں-گے وہ یہاں-کی
[G3956](#) [G4771](#) [G1107](#) [G3588](#) [G5602](#)

ہو یہاں جو گے دیں سنا کچھ سب وہ کو آپ دونوں ہے۔ سے جماعت کی آپ جو وہی ہے، رہا آپاس کے آپ ساتھ کے انیسمس بھائی عزیز اور وفادار ہمارے وہ ہے۔ رہا

10 Ἀσπάζεται ὑμᾶς, Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μάρκος, ὁ
 ہے سلام-کہتا-ہے تمہیں ارسترخس وہ ہم-قیدی میرا اور مرقس وہ
[G0782](#) [G4771](#) [G0708](#) [G3588](#) [G4869](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3138](#) [G3588](#)

ἀνεπιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς; ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε
 بھانجا برنباس-کا بارے جس-کے تم-نے-پائیں بدایتیں اگر آئے پاس تمہارے
[G0431](#) [G0921](#) [G4012](#) [G3739](#) [G2983](#) [G1785](#) [G1437](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#) [G1209](#)

αὐτόν,
 اُسے
[G0846](#)

جب ہیں۔ گئی دی ہدایات میں بارے کے اُس کو) آپ بھی۔ مرقس کزن کا برنباس طرح اسی اور ہے کہتا سلام کو آپ ہے میں قید ساتھ میرے جو ارسترخس کہنا۔(آمدید خوش اُسے تو آئے پاس کے آپ وہ

11 καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰουστος. οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι
 اور يسوع جو کہلاتا-ہے یوستس جو ہیں سے ختنہ-والوں یہ صرف
[G2532](#) [G2424](#) [G3588](#) [G3004](#) [G2459](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1537](#) [G4061](#) [G3778](#) [G3441](#)

συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία.
 ہم-کار کے لیے اُس بادشاہی-کے اُس خدا-کی جنہوں-نے بنے مجھے تسلی
[G4904](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3748](#) [G1096](#) [G1473](#) [G3931](#)

ہیں۔ یہودی مرد تین یہ صرف ہیں رہے کر خدمت میں بادشاہی کی اللہ ساتھ میرے جو سے میں اُن ہے۔ کہتا سلام کو آپ بھی ہے کہلاتا یوستس جو عیسیٰ ہیں۔ رہے باعث کا تسلی لئے میرے یہ اور

- 12 ἀσπάζεταιται ὑμᾶς, Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, πάντοτε
 ہمیشہ یسوع-کا مسیح غلام تم سے جو اپفراس تمہیں سلام-کہتا-ہے
[G0782](#) [G4771](#) [G1889](#) [G3588](#) [G1537](#) [G4771](#) [G1401](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3842](#)
- ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ
 اور کھڑے-ریو تاکہ دعاؤں میں تمہارے لیے کوکوش-کرتا-ہوا
[G0075](#) [G5228](#) [G4771](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4335](#) [G2443](#) [G2476](#) [G5046](#) [G2532](#)
- πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ.
 خدا-کی اس مرضی میں ساری مرضی
[G4135](#) [G1722](#) [G3956](#) [G2307](#) [G3588](#) [G2316](#)

دعا خاص کی اس ہے۔ کرتا دعا لے کے آپ ساتھ کے جہد و جد بڑی وقت ہر وہ ہے۔ کہتا سلام ہے سے جماعت کی آپ جو بھی ایفراس خادم کا عیسیٰ مسیح چلیں۔ مطابق کے مرضی کی اللہ میں بات ہر کر بن مسیحی بالغ آپ کہ رہیں، کھڑے ساتھ کے مضبوطی آپ کہ ہے یہ

- 13 μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ, ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ τῶν ἐν
 میں ان-کے اور تمہارے لیے محنت بہت رکھتا-ہے کہ اسے کیونکہ گواہی-دیتا-ہوں
[G3140](#) [G1063](#) [G0846](#) [G3754](#) [G2192](#) [G4183](#) [G4192](#) [G5228](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1722](#)
- Λαοδικεία, καὶ τῶν ἐν Ἱερᾷ πόλει.
 لاؤدیکہ اور ان-کے میں بیرا پولس
[G2993](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2413](#) [G4172](#)

بھی۔ لے کے جماعتوں کی بیراپلس اور لودیکہ بلکہ ہے کی محنت سخت لے کے آپ نے اس کہ ہوں سکتا کر تصدیق کی اس خود میں

- 14 ἀσπάζεταιται ὑμᾶς Λουκᾶς, ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητὸς, καὶ Δημᾶς.
 سلام-کہتا-ہے تمہیں لوکا وہ طبیب وہ پیارا اور دیماس
[G0782](#) [G4771](#) [G3065](#) [G3588](#) [G2395](#) [G3588](#) [G0027](#) [G2532](#) [G1214](#)

ہیں۔ کہتے سلام کو آپ دیماس اور لوکا ڈاکٹر عزیز ہمارے

- 15 Ἀσπάσαθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς, καὶ Νύμφαν, καὶ τὴν κατ'
 سلام-کہو ان میں میں لاؤدیکہ بھائیوں-کو اور نمفاس اور اس میں
[G0782](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2993](#) [G0080](#) [G2532](#) [G3564](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2596](#)
- οἴκον αὐτῆς ἐκκλησίαν.
 گھر اس-کے کلیسیا-کو
[G3624](#) [G0846](#) [G1577](#)

ہے۔ ہوتی جمع میں گھر کے اس جو سمیت جماعت اس کو نمفاس طرح اسی اور دینا کو جماعت کی لودیکہ سلام میرا

- 16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ' ὑμῶν ἢ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν
 اور جب پڑھی-جائے پاس تمہارے یہ خط کرو تاکہ بھی میں
[G2532](#) [G3752](#) [G0314](#) [G3844](#) [G4771](#) [G3588](#) [G1992](#) [G4160](#) [G2443](#) [G2532](#) [G1722](#)
- τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ, ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας, ἵνα καὶ
 اس لاؤدیکوں-کی کلیسیا پڑھی-جائے اور جو سے لاؤدیکہ تاکہ بھی
[G3588](#) [G2994](#) [G1577](#) [G0314](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1537](#) [G2993](#) [G2443](#) [G2532](#)
- ὑμεῖς ἀναγνώτε.
 تم پڑھو
[G4771](#) [G0314](#)

پڑھیں۔ بھی خط کا لودیکہ آپ اور جائے پڑھا خط یہ بھی میں جماعت کی لودیکہ کہ دیں دھیان بعد کے پڑھنے یہ

17 καὶ εἶπατε Ἀρχίππῳ, Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα
 اور کہو ارخپس-سے دیکھو وہ جو خدمت-کو تو-نے-پائی میں خداوند تاکہ
[G2532](#) [G3004](#) [G0751](#) [G0991](#) [G3588](#) [G1248](#) [G3739](#) [G3880](#) [G1722](#) [G2962](#) [G2443](#)
 αὐτὴν πληροῖς.
 اُسے پورا-کرو
[G0846](#) [G4137](#)

بے-گنی سونپی میں خداوند کو آپ جو پہنچائیں تک تکمیل خدمت وہ آپ کہ خبردار دینا، بتا کو ارخپس

18 Ὁ ἄσπασμός τῆ ἐμῆ χειρὶ -- Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν.
 یہ سلام اُس میرے ہاتھ-سے پولس-کا یاد-رکھو میرے اُن قیدوں-کو
[G3588](#) [G0783](#) [G3588](#) [G1699](#) [G5495](#) [G3972](#) [G3421](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1199](#)
 ἢ χάρις μεθ' ὑμῶν. <Ἀμήν>.
 وہ فضل ساتھ تمہارے آمین
[G3588](#) [G5485](#) [G3326](#) [G4771](#) [G0281](#)

رہے۔بوتا ساتھ کے آپ فضل کا اللہ بھولنا! مت زنجیریں میری سلام۔ سے طرف کی پولس یعنی میری ہوں۔ رہا لکھ الفاظ یہ سے ہاتھ اپنے میں